



PIRC

Pennsylvania Immigration
Resource Center

کلانٹ کے حقوق/رازداری کا نوٹس

اس اندراج میں حصہ لینے میں (اور شاید آپ مستقبل میں ایک کلانٹ بننا چاہئے) آپ کے اپنی ذاتی معلومات کی رازداری اور PIRC کے عملے اور رضاکاروں کے ساتھ مواصلات سے متعلق مندرجہ ذیل حقوق ہیں:

1. وہ معلومات جو آپ PIRC کو فراہم کرتے ہیں، بشمول آپ کا نام، پتہ، فون نمبر اور دیگر ذاتی معلومات، انہیں قانون کی رو سے بہت بڑی حد تک رازدارانہ رکھا جائے گا۔ جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے، ان کا آپ کی اجازت کے بغیر دیگر افراد یا ایجنسیوں کے ساتھ اشتراک نہیں کیا جائے گا۔
2. آپ PIRC کے لیے کون سی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی شناختی معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو آپ کو خدمات تک رسائی سے انکار نہیں کیا جائے گا۔
3. PIRC وکلاء اور اسٹاف بعض اخلاقی قوانین کے تابع ہیں، بشمول اٹارنی کی رازداری کی ذمہ داری کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ PIRC وکلاء اور اسٹاف آپ کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ اشتراک کردہ معلومات کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ وہ (1) کسی جج کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم دیا جائے، بشمول ایک امیگریشن جج یا (2) انہیں انی اخلاقی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے "عدالت میں صفائی دینے ہوئے" ایسا کرنے کی ضرورت ہو، جس کا مطلب ہے، امیگریشن کے تناظر میں، جج یا USCIS کے سامنے غلط یا گمراہ کن بیانات نہ دینا۔ وکلاء اور اسٹاف آپ کو بتائے گا اگر انہیں معلومات کا اشتراک کرنا ہوگا، اور کہاں وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کن معلومات کا اشتراک کیا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات میں، PIRC قانون کی حد سے باہر معلومات کا اشتراک نہیں کرے گا اور ایسا کرنے صرف اس صورت میں کوشش کرے گی تاکہ آپ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کو کم کیا جا سکے۔
4. فراہم کردہ خدمات کی اقسام اور مجموعی طور پر لوگوں کے بارے میں آبادیات کے ڈیٹا (مثال کے طور پر، عمر اور آمدنی کی حدود، بچوں کی اوسط تعداد، بچے، نسلی گروہ) میں کچھ عام معلومات جو PIRC سروسز استعمال کرتے ہیں، انہیں ایجنسیوں کے ساتھ اشتراک کرنا ضروری ہے جو PIRC کو چندہ دیتے ہیں۔ تاہم، وہ معلومات جو خاص طور پر آپ کو ایسے کسی شخص کے طور پر شناخت کر سکتی ہیں جس نے PIRC خدمات استعمال کی ہوں، ان کا اس وقت تک اشتراک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خاص طور پر آپ سے تحریری اجازت نہ لی ہو۔
5. PIRC کے ساتھ آپ کے اندراج کے بعد، آپ کو دیگر ایجنسیوں یا وکلاء کا حوالہ دینے کے لئے چنا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ کے ساتھ ہم شراکت کرتے ہیں، اضافی مدد اور حمایت کے لئے۔
6. آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذاتی معلومات کا کس قدر یا کتنا چھوٹا حصہ PIRC ہر پارٹنر ایجنسی کے ساتھ اشتراک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ کو بتایا جائے گا، عام طور پر، ہر پارٹنر کی کون سی ذمہ داریاں آپ کی معلومات کو خفیہ رکھنے کے لئے ہیں۔ اگر آپ ہماری شراکت دار ایجنسی کے ساتھ اپنی کچھ ذاتی معلومات کا انتخاب کرتے ہیں جو PIRC ان کو دے سکے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ بالکل کس طرح اور کن معلومات کا اشتراک کیا جائے گا۔ اگر آپ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی PIRC کے شراکت داروں کے ساتھ اشتراک کردہ معلومات کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہمیں بتائیں اور ہم ان شراکت داروں کے ساتھ کسی بھی معلومات کا اشتراک نہیں کریں گے۔
7. اگر آپ کو اس نوٹس یا آپ کے حقوق کے بارے میں کوئی سوالات یا خدشات ہیں، یا اگر آپ کو تشویش ہے کہ آپ کی خفیہ معلومات مناسب طریقے سے برتی نہیں گئی تھیں، تو براہ کرم PIRC کے ISP پراجیکٹ ڈائریکٹر سے (717) 600-8099 پر رابطہ کریں۔